



The Absolute Reality

www.quran4u.com



وہ دانائے نہاں و آشکار ہے سب سے بزرگ (اور) عالی رتبہ ہے

Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

سورة الرعد

اردو ترجمہ Urdu Translation

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ج
الر

الف لام را

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ کتاب (الہی) کی آیتیں ہیں۔

وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1)

لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

خدا وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو (اتنے) اونچے بنائے۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

پھر عرش پر جا ٹھہرا

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى

ہر ایک ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے۔

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

وہی (دنیا کے) کاموں کا انتظام کرتا ہے۔

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2)

(اس طرح) وہ (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا

اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا یا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے۔

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارُ^ج

وہی رات کو دن لباس پہناتا ہے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3)

غور کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ

اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے

وَجِبَالٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَحِيلٌ

اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت۔

صِنَوَانٌ وَغَيْرُهُ صِنَوَانٍ

بعض کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتیں

يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقْضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ^ج

(باوجود یہ کہ) پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میوؤں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4)

اس میں سمجھنے والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ اذْكُرُوا آبَاءًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ^ط

اگر تم عجب بات سنی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ

جب ہم (مرکر) مٹی ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہونگے؟

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبْرِبَّهُمْ^ط

یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں۔

وَأُولَئِكَ الْأَعْمَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ^ط

اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہونگے۔

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5)^ط

اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں (جلتے) رہیں گے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ^ط

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار (یعنی طالب عذاب ہیں) حالانکہ ان سے پہلے عذاب (واقع) ہو چکے ہیں۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ^ط

اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود انکی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6)

اور بیشک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ^ط

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ^ط

سو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7)

اور ہر ایک قوم کیلئے رہنما ہوا کرتا ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ^ط

خدا ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی (واقف ہے)

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمِقْدَارٍ (8)

اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ (9)

وہ دانائے نہاں و آشکار ہے۔ سب سے بزرگ (اور) عالی رتبہ ہے۔

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ

هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10)

کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر یارات کو کہیں۔ چھپ جائے
یادن (کی روشنی) میں کھلم کھلا چل پھرے (اس کے نزدیک) برابر ہے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ^ط

اسکے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ^ط

خدا اس (نعمت) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔

وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ^ج

اور جب خدا کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی

وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاٍ (11)

اور خدا کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12)

اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے۔

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

اور رعد اور فرشتے سب اسکے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ

اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے۔ پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13)

اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور وہ بڑی قوت والا ہے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

سو دمند پکارنا تو اسی کا ہے۔

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے۔

إِلَّا كَبَّاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ

مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دور ہی سے) اس کے منہ تک آ پہنچے۔ حالانکہ وہ (اس تک کبھی بھی) نہیں آسکتا۔

وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14)

اور (اسی طرح) کافروں کی پکار بیکار ہے۔

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے خدا کے آگے سجدہ کرتی ہے۔

وَضَلَّاهُمْ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ (15) ۞

اور ان کے سائے بھی صبح و شام (سجدے کرتے) ہیں۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟

قُلِ اللّٰهُ

(تم ہی انکی طرف سے) کہہ دو کہ خدا۔

قُلْ أَنَا تَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

پھر (ان سے) کہو کہ تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں
کار ساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتے؟

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

(یہ بھی) پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟

أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

بھلا ان لوگوں نے جنکو خدا کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے خدا کی
سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16)

کہہ دو کہ خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا (اور) زبردست ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

اسی نے آسمان سے مینہ برسایا۔

فَسَأَلَتْ أُودِيَةَ بِقَدَرِهَا

پھر اس سے اپنے اپنے اندازے کے مطابق نالے بہ نکلے۔

فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا

پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آگیا۔

وَمَا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهٗ

اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لئے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ

اس طرح خدا حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً

سو جھاگ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

اور (پانی) جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17)

اس طرح خدا (صحیح اور غلط کی) مثالیں بیان فرماتا ہے (تاکہ تم سمجھو)

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ

جن لوگوں نے خدا کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ

اور جنہوں نے اسکو قبول نہ کیا اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور انکے ساتھ ہی اتنے اور (نجات کے) بدلے میں صرف کر ڈالیں (مگر نجات کہاں؟)

أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ^ص

ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہو گا۔ اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے

وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18)

اور وہ بری جگہ ہے۔

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى^ج

بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے
تم پر نازل ہوا حق ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19)

اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقلمند ہیں۔

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20)

جو خدا کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں

وَيُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21)

اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے (مصائب پر) صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں

وَأَنْفَقُوا مِنْ رِزْقِنَا لَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

اور جو (مال) ہم نے انکو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں

وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں

أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُوبَى الدَّارِ (22)

یہی لوگ ہیں جن کے لئے عاقبت کا گھر ہے۔

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا

(یعنی) جو ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہونگے

وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ^ط

اور ان کے باپ دادا اور بیبیوں اور اولاد میں سے جو نیکو کار ہوں گے وہ بھی (بہشت میں جائیں گے)

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23)

اور فرشتے (بہشت کے) ہر ایک دروازے سے انکے پاس آئیں گے

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ^ج

(اور کہیں گے) تم پر رحمت ہو (یہ) تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے

فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24)

اور عاقبت کا گھر خوب (گھر) ہے۔

وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

اور جو لوگ خدا سے عہد واثق کر کے اسکو توڑ ڈالتے ہیں

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

اور جن (رشتہ ہائے قرابت) کے جوڑے رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں

وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ^{لا}

اور ملک میں فساد کرتے ہیں

أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25)

ایسوں پر لعنت ہے۔ اور انکے لئے گھر بھی برا ہے

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ^ج

خدا جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کا چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔

وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور (کافر لوگ) دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26)

اور دنیا کی زندگی آخرت (کے مقابلے) میں (بہت) تھوڑا فائدہ ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ^ط

اور کافر کہتے ہیں کہ اس (پیغمبر) پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ (27)

کہہ دو کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔

اور جو (اس کی طرف) رجوع ہوتا ہے اسکو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ^ط

(یعنی) جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یادِ خدا سے آرام پاتے ہیں

أَلَّا يَذَّكَّرَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)

(انکو) اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُمْ (29)

جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کے لئے خوش حالی اور عمدہ ٹھکانا ہے۔

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّتٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ

(جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں)

اسی طرح (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم کو اس

امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے

لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

تاکہ ان کو وہ (کتاب) جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنادو۔

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِاللَّحْمَنِ

اور یہ لوگ رحمن کو نہیں مانتے۔

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ (30)

میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ خُلِمَ بِهِ الْمُؤْتَىٰ

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس (کی تاثیر) سے پہاڑ

چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے۔

(تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا مگر)

بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

بات یہ ہے کہ سب باتیں خدا کے اختیار میں ہیں

أَفَلَمْ يَبْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا^ط

تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا أُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً^ج

اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ^ج

یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ خدا کا وعدہ آ پہنچے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31)

بیشک خدا وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ^{صل}

اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا۔

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32)

سو (دیکھ لو کہ) ہمارا عذاب کیسا تھا؟

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ^ط

تو کیا جو (خدا) ہر تنفس کے اعمال کا نگران (ونگہبان) ہے (وہ بتوں کی طرح) بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

اور ان لوگوں نے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں۔

قُلْ سَمُّوهُمْ^ج

ان سے کہو کہ (ذرا) انکے نام تولو۔

أَمْ تُتَّبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ

کیا تم اسے ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں (کہیں بھی) معلوم نہیں کرتا؟

أَمْ بَظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ

یا (محض) ظاہری (باطل اور جھوٹی) بات کی (تقلید کرتے ہو؟)

بَلْ زُرِينَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَمْكُرُهُمْ

اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔

وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ

اور وہ (ہدایت کے) راستے سے روک لئے گئے ہیں۔

وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33)

اور جسے خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کر نیوا لائے۔

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ

اور آخرت کا عذاب تو بہت سی سخت ہے۔

وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّاقٍ (34)

اور ان کو خدا (کے عذاب سے) کوئی بھی بچانے والا نہیں۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ

جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے اوصاف یہ ہیں کہ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ^ط

اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔

أَكْلُهُمْ دَائِمٌ وَظُلُمًا^ج

اسکے پھل ہمیشہ (قائم رہنے والے) ہیں اور اسکے سائے بھی۔

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا^ط

یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی ہیں

وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35)

اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ^ط

اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس (کتاب) سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں

وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ^ج

اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں بھی مانتے۔

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ^ج

کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ خدا ہی کی عبادت کروں اور اسکے ساتھ (کسی کو) شریک نہ بناؤں۔

إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبٍ (36)

میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاكُمْ مَاءً عَرْبِيًّا^ج

اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ

وَلَتِيْنَ اتَّبَعَتْ اٰهُوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ

الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ (37)

اور اگر تم علم (ودانش) آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو خدا کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہو گا اور نہ کوئی بچانے والا۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّ دُرِيًّا

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کو بیویاں اور اولاد بھی دی تھی۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ (38)

ہر (حکم) قضا (کتاب میں) مرقوم ہے۔

يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ

خدا جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور (جسکو چاہتا ہے) قائم رکھتا ہے۔

وَعِنْدَكُمْ اُمَّ الْكِتَابِ (39)

اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

وَإِنْ مَا نُزِّلَتْ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَوَفَّيْنَاكَ

اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں (یعنی تمہارے روبرو ان پر نازل کریں) یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں (یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں)

فَاِئْتِنَا بِالْحِسَابِ (40)

تو تمہارا کام (ہمارے احکام کا) پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اسکے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لِمُعَقَّبٍ لِحُكْمِهِ

اور خدا (جیسا چاہتا ہے) حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں۔

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41)

اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی (بہتری) چالیں چلتے رہے ہیں

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا

سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ

ہر تنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے۔

وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ (42)

اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر (یعنی انجام محمود) کس کے لئے ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم (خدا) کے رسول نہیں ہو۔

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43)

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا اور وہ شخص جس کے پاس کتاب (آسمانی) کا علم ہے گواہ کافی ہے۔



© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com